



سوال

(336) عورت ولی نہیں ہو سکتی

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک یتیم لڑکی نابالغہ دس نو سال کا نکاح بغیر رضامندی اولیاء عصبات کیا گیا تھا۔ صرف رشتہ داروں میں سے اس کی ماں پر جبر دباؤ ڈال کر مجلس نکاح میں اجازت کے واسطے شامل کیا گیا تھا۔ اور وہ اس امر پر خوش نہیں۔ آیا ایسا نکاح اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک جائز ہے۔ یا ناجائز ہے۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

محدثین کے نزدیک عورت ولی نہیں ہو سکتی۔ اور فقہاء کے نزدیک بھی عصبات کی موجودگی میں ماں کو حق ولایت حاصل نہیں۔ اس لئے مندرجہ سول باتفاق ناجائز ہے۔

ہذا ما عندي واللہ اعلم بالصواب

[فتاویٰ شناسیہ امرتسری](#)

جلد 2 ص 327

محدث فتویٰ